

Q.7. Translate the following Urdu paragraph into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions.

(10)

لاہور شہر سیاست ہی نہیں ثقافت کا بھی قدیم مرکز ہے۔ مغلوں کی ثقافت نے عروج کا زمانہ اس شہر میں دیکھا۔ سکھ ثقافت کا بھی یہی مرکز تھا۔ علم و ادب کی ثقافت بھی اسی شہر کے حصہ میں آئی۔ اہل تصوف کا بھی یہی مرکز تھا۔ تصوف کی مشہور کتاب کشف المحجوب کے مصنف حضرت علی ہجویری المشہور حضرت داتا گنج بخش بھی اسی شہر میں مدفون ہیں۔ انگریزوں کے دور میں بھی لاہور کا فیشن پورے ہندوستان میں رائج ہوتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اس شہر کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔

Date: ___/___/20___

MON TUE WED THS FRI SAT
○ ○ ○ ○ ○ ○

CSS 2018 Translation.

The city of Lahore is not only the centre of politics but also of culture. The Mughal civilization has seen its zenith / heights of glory in this city. The Sikh culture ^{also} has its centre here. The culture of knowledge and literature also becomes part of this city. It was also the centre of intellectuals / sufis.

The famous writer of the book Kashaf - al - Majoob, Hazrat Ali Hajveri also known as Hazrat Data Gang Baksh is also buried in this city. In the ~~era~~ era of Britishers, Lahore's fashion was prevalent all across Hindustan.

This city does not lose its value even after formation of Pakistan.